



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

## **PRESS RELEASE**

For immediate release

April 22, 2025

### **SECP and RCCI Join Forces to Promote Incorporation, Empower and Expand Pakistan's Corporate Landscape**

**Islamabad, 22 April 2025** — The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), in partnership with the Rawalpindi Chamber of Commerce & Industry (RCCI), hosted an exclusive awareness session urging entrepreneurs to incorporate, empower, and expand their ventures through formal registration as a Company or Limited Liability Partnership (LLP).

The well-attended event equipped RCCI members, start-ups, and women-led businesses with practical, step-by-step guidance on business incorporation. Participants learned how choosing the right structure unlocks transparent governance, wider market access, and the credibility needed to scale, while also positioning firms for investment and long-term growth.

The session emphasized the value of continuous engagement with business chambers across the country, recognizing the crucial role such forums play in reshaping perceptions and equipping business owners with the tools to thrive in Pakistan's structured and credible corporate environment.

A key highlight of the proceedings was the proposal to formalize joint efforts through a Memorandum of Understanding (MoU) between SECP and RCCI. This MoU aims to promote corporate literacy, enhance business awareness, and cultivate a resilient business culture. Both institutions reaffirmed their resolve to counter Ponzi schemes and illegal deposit-taking, calling upon RCCI members to actively report suspicious activities and act as whistle-blowers.

In line with SECP's commitment to inclusivity, a dedicated follow-up session will be held for women entrepreneurs at SECP headquarters. RCCI leadership also requested tailored presentations addressing incorporation requirements for small-sized companies and the conversion of sole proprietorships into registered business entities.

Looking ahead, SECP shared its broader, forward-looking vision under able leadership of Chairman SECP— a holistic approach that spans the entire lifecycle of a company. This includes formation, operation, dispute resolution, restructuring and rehabilitation, as well as liquidation and closure. This strategic shift positions SECP not merely as a regulator, but as an enabler of beneficial regulation — one that fosters growth, transparency, and sustainable development throughout all stages of a business's life.

As a way forward, the formalization of awareness campaigns and collaborative outreach through the proposed MoU were underscored as vital steps to strengthening Pakistan's corporate ecosystem.

The session concluded with a joint pledge by SECP and RCCI to help Pakistani enterprises incorporate, empower, and expand — laying the foundation for a more transparent, credible, and growth-driven economy.

**ایس ای سی پی اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (آر سی سی آئی) نے باہمی اشتراک کے ذریعے پاکستان میں کارپوریٹ شعبے کے فروغ، کاروباری اداروں کے استحکام اور ان کی وسعت کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کیا ہے۔**

اسلام آباد، 22 اپریل: ایس ای سی پی نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (RCCI) کے ساتھ شراکت میں، ایک خصوصی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا جس میں کاروباری افراد پر زور دیا گیا کہ وہ کمپنی یا لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ (ایل ایل پی پارٹنرشپ) کے طور پر باضابطہ رجسٹریشن کے ذریعے اپنے کاروبار کو شامل کریں، باختیار بنائیں اور ان کو وسعت دیں۔

اس پروگرام میں آر سی سی آئی کے اراکین، نوآموز کاروباری اداروں اور خواتین کی زیر قیادت کاروباروں کو کاروباری رجسٹریشن سے متعلق عملی اور مرحلہ وار رہنمائی فراہم کی گئی۔ شرکاء نے سیکھا کہ درست کاروباری ڈھانچے کا انتخاب شفاف انتظام، وسیع تر مارکیٹ تک رسائی، اور ترقی کے لیے درکار ساکھ کو یقینی بناتا ہے، جبکہ یہ سرمایہ کاری اور طویل مدتی ترقی کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔

تقریب کا ایک اہم پہلو یہ تجویز تھی کہ ایس ای سی پی اور آر سی سی آئی کے درمیان تعاون کو ایک مفہمتی یادداشت (ایم او یو) کے ذریعے باضابطہ بنایا جائے، جس کا مقصد کارپوریٹ تعلیم کو فروغ دینا، کاروباری بیداری میں اضافہ کرنا، اور ایک مضبوط، پائیدار کاروباری ماحول کی تشکیل ہے۔ دونوں اداروں نے پونزی اسکیموں اور غیر قانونی سرمایہ کاری کے خلاف اپنی پختہ وابستگی کا اعادہ کیا، اور آر سی سی آئی کے اراکین سے اپیل کی کہ وہ مشتبہ سرگرمیوں کی بروقت اطلاع دیں اور بطور انکشاف کنندہ (وسل بلوئر) فعال کردار ادا کریں۔

ایس ای سی پی کی شمولیت پر مبنی عزم کے تحت، خواتین کاروباری افراد کے لیے ایک خصوصی فالو اپ سیشن ایس ای سی پی میں منعقد کیا جائے گا۔ اس موقع پر راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی قیادت نے درخواست کی کہ چھوٹے پیمانے کی کمپنیوں کی رجسٹریشن اور واحد ملکیتی کاروبار کو باقاعدہ رجسٹرڈ کاروباری اداروں میں تبدیل کرنے سے متعلق ضروری تقاضوں پر مشتمل مخصوص پریزنٹیشنز بھی فراہم کی جائیں۔

مستقبل کی سمت دیکھتے ہوئے، ایس ای سی پی نے اپنے چیئرمین کی مؤثر قیادت میں اپنے وسیع اور دور اندیش وژن کا خاکہ پیش کیا — ایک جامع نقطہ نظر جو کمپنی کے مکمل سفر کو محیط ہے۔ اس وژن میں کمپنی کی تشکیل، عملی امور، تنازعات کا حل، تنظیم نو اور بحالی، نیز اختتام اور تحلیل

كے مراحل شامل ہیں۔ یہ حكمت عملی ایس ای سی پی كو محض ایک نگران ادارے كے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے فعال اور معاون ریگولیٹر كے طور پر پیش كرتی ہے، جو كاروبار كے ہر مرحلے میں ترقی، شفافیت، اور پائیدار نمو كو فروغ دیتا ہے۔

سیشن كا اختتام ایس ای سی پی اور آر سی سی آئی كی جانب سے ایک مشتركہ عزم كے اظہار پر ہوا، جس كے تحت وہ پاکستانی كاروباری اداروں كو رجسٹر ہونے، باختیار بننے اور وسعت پانے میں مدد فراہم كریں گے — تاكه ایک زیادہ شفاف، قابل اعتبار اور ترقی یافتہ معیشت كی بنیاد ركھی جا سكے۔